

الْحَاقَّةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

ہو کر رہنے والی۔

الْحَاقَّةُ^١

کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی۔

مَا الْحَاقَّةُ^٢

اور کیا معلوم ہے تلو کیا ہے ہو کر رہنے والی۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ^٣

جھٹلایا ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ^٤

سو ثمود ہلاک کر دیئے گئے بڑے زلزلے سے۔

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ^٥

اور رہے عاد تو وہ ہلاک کر دیئے گئے ایسی
آندھی سے جو نہایت سرد طوفانی تھی۔

وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ
عَاتِيَةٍ^٦

مسلط رکھا اسے ان پر سات راتیں اور

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَشَمْسٍ

آٹھ دن مسلسل۔ تو پھر دیکھتا ان لوگوں کو اس
میں گرے ہوئے جیسے وہ ہیں تنے کھجور
کے کھوکھلے۔

أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا
صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلِ
خَاوِيَةٍ

پھر کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو باقی۔

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ

اور آیا فرعون اور جو تھے اس سے پہلے اور
الٹی ہوئی بستियों والے خطاؤں کے ساتھ۔

وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَن قَبْلَهُ
وَ الْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ

سو نافرمانی کی انہوں نے رسول کی اپنے رب
کے تو اسے پکڑا انکو بڑی سخت گرفت میں۔

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ
أَخْذَةً رَّابِيَةً

بلا شبہ جب طغیانی پر آیا پانی تو ہم نے سوار
کر دیا تم کو کشتی میں۔

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي
الْجَارِيَةِ

تاکہ بنا دیں اسکو تمہارے لئے یادگار اور یاد
رکھیں اسے کان جو ہوں یاد رکھنے والے۔

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيَهَا أُنْثَى
وَاعِيَةٌ

پھر جب پھونک مار دی جائے گی صور میں
ایک پھونک یک بارگی۔

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً
وَاحِدَةً ۗ

اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ پھر توڑ
پھوڑ کر دیئے جائیں گے ایک چوٹ میں۔

وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دَكَّةً وَاحِدَةً ۗ

تو اس روز ہو پڑے گی ہو پڑنے والی قیامت۔

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ

اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہو گا اس دن
کمزور۔

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ
وَاهِيَةٌ ۗ

اور فرشتے ہوں گے اسکے کناروں پر۔ اور
اٹھائے ہوں گے عرش تمہارے رب کا
اپنے اوپر اس روز آٹھ (فرشتے)۔

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۗ

اس روز تم پیش کئے جاؤ گے۔ نہیں چھپی
رہے گی تمہاری کوئی پوشیدہ بات۔

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ
خَافِيَةٌ ۗ

سو جس کو دیا گیا اسکا اعمال نامہ اسکے داہنے ہاتھ
میں تو وہ کہے گا کہ لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ
هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ ۗ

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلِقٌ حِسَابِيهِ ۚ

بلاشبہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ

پس وہ ہوگا عیش میں دل پسندیدہ۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ

جنت میں اعلیٰ درجہ کی۔

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۙ

جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا آسَلَفْتُمْ فِي
الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۙ

کھاؤ اور پیو مزے سے ان (اعمال) کے
عوض جو تم آگے بھیج چکے ہو ایام گذشتہ میں۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ
يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ ۚ

اور یہ کہ وہ جس کو دیا گیا اسکا نامہ اعمال اس کے
بائیں ہاتھ میں تو وہ کہے گا اے کاش نہ دیا جاتا
مجھ کو میرا اعمال نامہ۔

وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهِ ۚ

اور نہ ہی مجھ معلوم ہوتا کہ کیا ہے میرا حساب۔

يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۚ

اے کاش کر چکی ہوتی (موت) میرا کام تمام۔

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۚ

نہیں کام آیا کچھ بھی میرے میرا مال۔

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ^ج

جاتا رہا مجھ سے میرا اقتدار۔

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ^{لا}

پکڑ لو اسے پس طوق پہنا دو اسکو۔

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ^{لا}

پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو اسے۔

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ^ط
فَأَسْلُكُوهُ

پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی ستر گز ہے
سو جکڑ دو اسے۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ^{لا}

بیشک یہ ایمان نہ لاتا تھا اللہ پر جو عظیم ہے۔

وَلَا يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ^ط

اور نہ ترغیب دیتا تھا کھانا کھلانے کی فقیر کو۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُهُنَا حَمِيمٌ ^{لا}

سو نہیں اس کا آج یہاں کوئی دوست۔

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينِ ^{لا}

اور نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کی دھوون کے۔

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ^ع

نہیں کھائے گا جس کو سوائے گنہگاروں کے۔

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ^{لا}

پس نہیں۔ قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو
تم دیکھتے ہو۔

اور انکی جو نہیں تم دیکھتے۔

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾

بیشک یہ (قرآن) قول ہے ایک معزز فرشتے کا (پہنچایا ہوا)۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا۔ بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٤٥﴾

اور نہ قول ہے کسی کاہن کا۔ بہت ہی کم ہے جو تم غور و فکر کرتے ہو۔

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

اور اگر یہ (پیغمبر) جھوٹ بنا لاتے ہماری نسبت بعض باتیں۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٨﴾

تو ضرور پکڑ لیتے ہم ان کا داہنا ہاتھ۔

لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٩﴾

پھر ضرور کاٹ ڈالتے ان کی شہ رگ۔

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٥٠﴾

پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی (ہمیں) اس سے

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ

روکنے والا۔

حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾

اور بیشک یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کیلئے۔

وَإِنَّهُ لَتَذَكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

اور بیشک ہم جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

اور بیشک یہ موجب حسرت ہے کافروں کے لئے۔

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾

اور بیشک یہ حق ہے یقینی طور پر۔

وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

سو تسبیح کرو تم نام کی اپنے رب کے جو عظیم ہے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

